

141646 - روزے کی حالت میں ماہر سرجن ترکیز کھو بیٹھے تو کیا روزہ نہ رکھے؟

سوال

ایک ماہر سرجن ڈاکٹر روزانہ تقریباً چار سے پانچ آپریشن کرتا ہے، یعنی دوسرے معنوں میں وہ چار یا پانچ افراد کی زندگیوں کا ذمہ دار ہے، اور روزے میں اسے مشقت ہوتی ہے وہ ترکیز کھو بیٹھتا ہے، اور یہ کام یعنی آپریشن باریک بینی سے عمل چاہتا ہے، تو کیا ڈاکٹر روزہ نہ رکھے، یہ علم میں رہے کہ سارا سال اس کا یہی کام ہے صرف ہفتہ میں ایک چھٹی ہوتی ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل و بالغ اور مقیم و تندرست شخص پر فرض ہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کرے البقرة (183 - 184).

اور پھر روزہ دین کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ دین کی ان اشیاء میں شامل ہوتا ہے جس کا علم ہونا ضروری ہے، اسلامی ممالک میں ہر چھوٹا اور بڑا اس کی تعظیم پر پرورش پاتا ہے، اور اس کی تعظیم کرنا مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہو چکی ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

یہ سن لیا تو اب اور سنو! جو کوئی بھی اللہ کے شعائر و نشانیوں حرمت تعظیم کرے یہ اس کے دل کی پرہیزگار کی وجہ سے ہے الحج (32).

مزید آپ سوال نمبر (38747) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اس شعار کی بھی تعظیم کرے، اور اس میں سستی و کاہلی کرنے سے اجتناب کرے، اور اسے قائم کرنے اور اس کی ادائیگی کی ہر ممکن کوشش و سعی کرے جیسا کہ اللہ نے

حکم دیا ہے؛ اور اگر اس کے لیے روزے کی حالت میں کام کرنا مشکل ہو اور مشقت کا باعث بنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا کام دن کی بجائے رات کو کر لیا کرے۔

جب ایسا کرنا ممکن ہو، اس قسم کے عام آپریشن رات کو کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی آپریشن کے علاوہ باقی تو رات کو کرنے ممکن ہیں، جس طرح دن کو ہو سکتے ہیں رات کو بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے ڈاکٹروں کی عادت بھی ہے۔

اور اگر اس کے لیے اپنا کام رات کو کرنا ممکن نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سالانہ چھٹی رمضان المبارک میں حاصل کیا کرے، یا پھر اگر ممکن ہو سکے تو کچھ چھٹیاں رمضان میں لے لیا کرے تا کہ روزے کے لیے بالکل فارغ ہو۔

اور اگر اس کے لیے ایسا کرنا بھی ممکن نہیں، اور وہ کوئی ایسا دوسرا کام بھی نہیں پاتا جس میں رمضان المبارک کے روزے رکھ سکے، اور کام چھوڑنے سے اسے نقصان و ضرر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اس دن روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی جس میں اسے بالفعل مشقت ہوتی ہو، یہ نہیں کہ صرف خدشہ کے پیش نظر وہ روزہ ہی نہ رکھے کہ اسے مشقت ہوگی۔

اور پھر بعد میں وہ ان روزوں کی قضاء ہفتہ وار چھٹیوں میں کر لیا کرے، یا پھر دوسرے دن جس میں روزہ رکھنا ممکن ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضاء دوسرا رمضان شروع ہونے سے قبل مکمل کر لے۔

شرح منتهی الارادات میں درج ہے:

" جس شخص کا کام کاج سخت اور شدید ہو اور اسے کام ترک کرنے سے ضرر و نقصان ہوتا ہو، اور اسے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اور اس کی قضاء کرے، اما آجری نے یہی بیان کیا ہے " انتہی

دیکھیں: شرح منتهی الارادات (1 / 478)۔

اور الموسوعة الفقهية میں درج ہے:

" احناف کا کہنا ہے: کاریگر اپنے اخراجات کا محتاج ہے مثلاً نانوائی اور کٹائی کرنے والا شخص، جب اسے یہ معلوم ہو کہ اگر وہ اپنا کام کریگا اور اسے کام کی بنا پر نقصان و ضرر ہو گا تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن مشقت و ضرر سے قبل اس کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے " انتہی

دیکھیں: الموسوعة الفقهية (28 / 57)۔

اور مستقل فتاویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں درج ہے:

"مكلف کے لیے رمضان المبارك کا روزہ اس لیے چھوڑنا جائز نہیں کہ وہ کام کاج کرتا ہے، لیکن اگر کام کی بنا پر اسے مشقت اور عظیم ضرر پہنچے جس کی بنا پر اسے روزہ کھولنے پر مجبور ہونا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ روزہ کھول لے اور پھر غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیئے ہی رہے، اور لوگوں کے ساتھ ہی عید منائے، اور جس دن اس نے روزہ توڑا تھا اس کی قضاء بعد میں کر لے" انتہی

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (10 / 233).

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (65803) اور (132438) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں.

والله اعلم .